

سوال

مجھے ایک ثقہ دوست نے کہا ہے کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک درس میں کہا ہے کہ کمیٹیوں کا نظام شرعا حرام ہے، مجھے انشاء اللہ اس کی بات پر وثوق ہے، لیکن پھر بھی آپ بتائیں کہ اس قول کی حقیقت کیا ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ سے کمیٹیوں کے جواز کا قول معروف و مشہور ہے، لیکن اس میں بعض علماء کرام نے مخالفت کرتے ہوئے اسے حرام قرار دیا ہے ان میں شیخ صالح الفوزان شامل ہیں انہوں نے اپنی کتاب "البيان لاختفاء بعض الكتاب" صفحہ (377 - 380) میں اسے حرام قرار دیا ہے -

کبار علماء کرام کی مجلس نے ان کمیٹیوں کے حکم کے بارہ میں ایک فیصلہ اور فتویٰ بھی صادر کیا ہے جو ذیل میں بالنص درج کیا جاتا ہے :

سب تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور اور درود و سلام ہوں نبی مکرم و امین اور مخلوق سے بہتر انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور صحابہ کرام پر اور قیامت تک ان کی اتباع کرنے والوں پر -

اما بعد :

کبار علماء کرام کی مجلس نے طائف میں ہونے والے اپنے چوتیسویں اجلاس میں کچھ سوالات پر غورو خوض کیا اجلاس 1410 / 2 / 16 سے 1410 / 2 / 26 ہجری تک جاری رہا -

کچھ ملازمین اور ٹیچر حضرات کی جانب سے دعوت و ارشاد اور علمی ریسرچ ادارہ کے رئیس صاحب کو سوال پیش کیا گیا اور انہوں نے مجلس کے سامنے یہ سوال رکھا کہ :

ملازمین آپس میں ایک کمیٹی ڈالتے ہیں اس کا حکم کیا ہے؟ اس کمیٹی کی صورت یہ ہے کہ : کسی ایک ہی دفتر یا سکول وغیرہ میں کچھ ملازمین کا آپس میں متفق ہو کر مہینہ کے آخر میں تنخواہ سے کچھ رقم مساوی طور پر اکٹھی

کرنا اور یہ رقم ان کمیٹی ممبران میں سے کسی ایک ممبر کو ادا کر دینا ، اسی طرح ہر ماہ سب کمیٹی ممبران سے رقم اکٹھی کر کے ایک ممبر کو ادا کی جاتی ہے حتیٰ کہ سب ممبران اتنی ہی رقم حاصل کرتے ہیں جتنی وہ تھوڑی تھوڑی کر کے جمع کرواتے ہیں اس میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوتی ۔

اور اسی طرح شیخ عبداللہ بن سلیمان المنیع کے پیش کردہ مقالے کو بھی دیکھا گیا جس میں قرض پر نفع حاصل کرنے کا حکم بیان کیا گیا ہے ، اسے دیکھنے کے بعد اراکین مجلس میں بحث و تمحیث جاری رہی جس کے بعد مجلس کے اکثر ارکان کے لیے کوئی ایسی چیز ظاہر نہ ہوئی جو اس طرح کے معاملے کو منع کرنے والی ہو ۔

اس لیے کہ قرض لینے والے کو ہونے والی منفعت قرض دینے والے کے مال میں کچھ بھی کمی نہیں کر رہی ، بلکہ قرض لینے اور دینے والے (یعنی کمیٹی کے سب ممبران کو) برابر کا نفع حاصل ہو رہا ہے ، اور یہ نفع ان سب کے لیے ہے کسی ایک ممبر کو بھی اس میں نقصان نہیں اور نہ ہی کسی دوسرے سے زیادہ نفع حاصل ہو رہا ہے ۔

اور شریعت مطہرہ اسی مصلحتوں اور منفعتوں کو رد نہیں کرتی جس میں کسی ایک پر بھی نقصان و ضرر نہ ہو بلکہ اسی چیز کی مشروعیت وارد ہے ۔

اللہ تعالیٰ ہی توفیق بخشنے والا ہے ، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور صحابہ کرام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے ۔

مجلس کبار علماء ۔

دیکھیں : مجلۃ البحوث الاسلامیۃ عدد (27) صفحہ (349 - 350) ۔

اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی ان کمیٹیوں کے بارہ میں فتویٰ ہے جس میں انہوں نے اسے مباح و جائز قرار دیا ہے ، ان سے جب اس کے حکم کے بارہ میں پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا :

اس میں کوئی حرج نہیں ، یہ ایک ایسا قرض ہے جس میں کسی ایک کے لیے بھی زیادہ نفع کی شرط نہیں پائی جاتی ، اور اس مسئلہ میں مجلس کبار علماء کرام نے بھی غور و خوض کیا اور اکثریت کے ساتھ اس کے جواز کا فیصلہ کیا اس لیے کہ اس میں سب کی مصلحت ہے اور کسی ایک کا بھی نقصان نہیں ۔

اللہ تعالیٰ ہی توفیق بخشنے والا ہے ۔

دیکھیں : فتاویٰ اسلامیۃ (2 / 413) ۔

واللہ اعلم ۔